

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



سندھ، سرفراز احمد کی قیادت میں ایک بہترین قوت

- اسد شفیق، عابد علی، خرم منظور، فواد عالم اور سعد علی پر مشتمل بیٹنگ لائن اپ
- محمد حسنین، سہیل خان، میر حمزہ اور تابش خان پر مشتمل باؤلنگ لائن اپ

کراچی، 12 ستمبر 2019ء:

قومی کرکٹر سرفراز احمد ڈومیسٹک سیزن 2019-20 میں سندھ کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ قائداعظم ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان میچ 14 ستمبر کو یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔

سندھ کرکٹ ٹیم کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ میں ڈومیسٹک کرکٹ کا وسیع تجربہ رکھنے والے کرکٹرز فواد عالم، عابد علی اور خرم منظور کے نام بھی شامل ہیں۔ تجربہ کار قومی ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ میچ میں اپنا ڈیبیو کرنے والے سعد علی بھی سندھ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں۔

قائداعظم ٹرافی گریڈ 2 کے میچ میں اسٹیٹ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے سعد علی ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈبل سنچری اسکور کرچکے ہیں۔

سندھ کی جانب سے ممکنہ طور پر خرم منظور اور عابد علی پر مشتمل اوپننگ جوڑی اننگ کا آغاز کرے گی۔ 31 سالہ عابد علی 102 فرسٹ کلاس میچز میں 38.28 کی اوسط سے 6700 رنز بنا چکے ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹ کیریئر میں عابد علی اب تک 17 سنچریاں اسکور کرچکے ہیں۔ عابد علی اپنے ایک روزہ ڈیبیو میچ میں سنچری اسکور کرنے والے تیسرے پاکستانی بلے باز ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ میچ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔

پاکستان کی جانب سے 16 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے خرم منظور 162 فرسٹ کلاس میچز

میں 10166 رنز بناچکے ہیں۔ ان کے ڈومیسٹک کیریئر میں 23 سنچریاں بھی شامل ہیں۔

ٹورنامنٹ کے بہترین مڈل آرڈر بلے بازوں پر مشتمل سندھ کی بیٹنگ لائن اپ میں اسد شفیق، فواد عالم، سعد علی اور سرفراز احمد شامل ہیں۔

69 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے اسد شفیق اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کیریئر میں 22 سنچریوں کی مدد سے 8638 رنز بناچکے ہیں۔ اسد شفیق 138 فرسٹ کلاس میچز کھیل چکے ہیں۔

بائیں ہاتھ کے بلے باز فواد عالم 155 فرسٹ کلاس میچز میں 30 سنچریاں اسکور کرچکے ہیں۔ وہ اب تک 11441 رنز بناچکے ہیں۔

ٹیم کے کپتان سرفراز احمد 149 فرسٹ کلاس میچز میں 7623 رنز بناچکے ہیں۔ سرفراز احمد نے بطور وکٹ کیپر 471 کیچز اور 49 اسٹمپ آؤٹ کیے۔ سعود شکیل، رمیز عزیز، عمر بن یوسف اور شہزر محمد بھی سندھ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں۔

پاکستان کی جانب سے 5 ایک روزہ اور 1 ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے والے محمد حسنین سندھ کی جانب سے باؤلنگ کا آغاز کریں گے۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرنے والے محمد حسنین ایونٹ میں سرفراز احمد کا ٹرپ کارڈ ہوں گے۔ تجربہ کار تابش خان اور سہیل خان بھی ٹیم حصہ ہیں۔

سہیل خان نے 100 فرسٹ کلاس میچز میں 449 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ 34 سالہ تابش خان نے 118 فرسٹ کلاس میچز میں 543 وکٹیں حاصل کی ہیں جس میں 36 مرتبہ پانچ یا اس سے زائد وکٹیں حاصل کرنا شامل ہیں۔

آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے میر حمزہ قائد اعظم ٹرافی میں سندھ کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ کاشف بھٹی اور ولید احمد اسپن باؤلنگ کے شعبے میں ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔

100 فرسٹ کلاس میچز کھیلنے والے 31 سالہ آل راؤنڈر انور علی بھی سندھ کرکٹ ٹیم میں شامل ہیں۔

سرفراز احمد، کپتان سندھ:

سندھ کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد بہترین اسکواڈ کے انتخاب پر مطمئن ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیم نوجوان اور سینئر کھلاڑیوں پر مشتمل ہے جو ایونٹ جیتنے کی صلاحیت

رکھتی ہے۔

سرفراز احمد نے کہا کہ کھلاڑی ایک یونٹ بن کر میدان میں اتریں گے۔ ہمارے پاس محمد حسنین کی صورت میں ایک بہترین فاسٹ باؤلر موجود ہیں۔

کپتان سندھ کرکٹ ٹیم نے کہا کہ ہمارے پاس خرم منظور، عابد علی، سعد علی، اسد شفیق، سعود شکیل، فواد عالم، شہزاد محمد اور عمیر بن یوسف پر مشتمل مضبوط بیٹنگ لائن اپ موجود ہے۔

سرفراز احمد نے کہا کہ محمد حسن بیک اپ وکٹ کیپر ہوں گے۔ کاشف بھٹی اسپن باؤلنگ اور انور علی بطور آلراؤنڈر میں ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کپتان نے کہا کہ ہمارے لیے ہر میچ اہم ہے، کوشش ہوگی کہ ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کریں تاکہ دیگر میچز کے لیے ٹیم کا مورال بلند ہو۔

سندھ سیکنڈ الیون:

فاسٹ باؤلر محمد سمیع کو سندھ کی سیکنڈ الیون کا کپتان اور مینٹور مقرر کیا گیا ہے ٹیم میں رمیز راجہ جونیئر اور رمان رئیس کی شمولیت فٹنس سے مشروط رکھی گئی ہے۔

36 ٹیسٹ، 87 ایک روزہ اور 13 ٹی ٹوٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے محمد سمیع ڈومیسٹک کرکٹ کا بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ محمد سمیع اب تک 179 فرسٹ کلاس میچز کھیل چکے ہیں۔ 38 سالہ فاسٹ باؤلر فرسٹ کلاس کرکٹ میں 27.35 کی اوسط سے 610 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

محمد سمیع کی زیر قیادت سندھ سیکنڈ الیون کرکٹ ٹیم میں بائیں ہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے غلام مدثر اور دائیں ہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے فاسٹ باؤلر عدیل ملک شامل ہیں۔

عماد عالم، احسن علی، دانش عزیز اور جاہد علی پر مشتمل بیٹنگ لائن اپ میں رمیز راجہ جونیئر کا اہم کردار ہوگا۔

سیکنڈ الیون کرکٹ ٹورنامنٹ میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو نیشنل بنک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4